



سوال

(160) با وضوء عورت بچے کو دودھ پلانے کے بعد وضوء کرے گی؟

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

عورت بچے کو با وضوء دودھ پلانے تو کیا وہ دوبارہ وضوء کرے کیونکہ دودھ پلاتے وقت اسے اس طرح لذت محسوس ہوتی ہے، جس طرح مباشرت کے وقت محسوس ہوتی ہے۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جب بحالتِ خون نماز پڑھی جاسکتی ہے تو بحالتِ نمانبچے کو دودھ بھی پلایا جاسکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا نظریہ یہی ہے کہ خون نکلنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے: مسلمان ہمیشہ سے اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انھوں نے خون سے بہتے ہوئے زخموں میں نماز ادا کی۔ فتح الباری: ۲۸۱/۱ فی ترجمۃ الباب: صحیح البخاری، باب مَنْ لَمْ يَزِ الْوَضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمُحْرَجِينَ: مِنَ الْقُبُلِ وَالذُّبُرِ

دونوں کاموں میں جامع وصف اندرونی حصہ شے کا باہر آنا ہے باہر صورت مباشرت جیسی لذت ہونا محض ادعاء ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ حاقظ ثناء اللہ مدنی

کتاب الطہارۃ: صفحہ: 171

محدث فتویٰ